



# نہایت

## سُرگشٹ کے طلاق پڑھی

مُفْتَقِي مُحَمَّدِ عَمَانِ

ادارۃ المعارف گل پچی

باہتمام : محمد مشتاق سَتّی

طبع جدید : ذوالقعدہ ۱۴۲۸ھ۔ جنوری ۲۰۰۷ء

مطبع : احمد پرنگ پرس ناظم آباد کراچی

ناشر : ادارۃ المعارف کراچی۔ احاطہ دار العلوم کراچی

فون : 5049733 - 5032020

ای میل : i\_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

● ادارۃ المعارف کراچی۔ احاطہ دار العلوم کراچی

فون: 5049733 - 5032020

● مکتبۃ عارف القرآن کراچی۔ احاطہ دار العلوم کراچی

فون: 5031566 - 5031566

# نمازیں سنن کے مطابق پڑھئے

جدید ترمیم و اضافہ شدہ ایڈیشن

مُفْتَنُ مُحَمَّدْ عُثَمَانِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى

نماز دین کا ستون ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک سنت کے  
مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بے فکری  
کے ساتھ نماز کے اركان جس طرح سمجھ میں آتا ہے، ادا کرتے  
رہتے ہیں، اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ اركان مسنون

طريقے سے ادا ہوں، اس کی وجہ سے ہماری نمازیں سنت کے انوار و برکات سے محروم رہتی ہیں، حالانکہ ان اركان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، نہ مخت زیادہ ہوتی ہے، بس ذرا سی توجہ کی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے کر صحیح طریقہ سیکھ لیں اور اس کی عادت ڈال لیں تو جتنے وقت میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں، اتنے ہی وقت میں وہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے گی، اور اس کا اجر و ثواب بھی اور انوار و برکات بھی آج سے کہیں زیادہ ہوں گے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز کا ایک ایک عمل خوب توجہ کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دینے کا بڑا اہتمام تھا، اور وہ ایک دوسرے سے سنتیں سکھتے بھی رہتے تھے۔

اسی ضرورت کے پیش نظر احرق نے اپنی ایک مجلس میں

نماز کا مسنون طریقہ اور اس سلسلے میں جو غلطیاں رواج پائی ہیں،  
ان کی تفصیل بیان کی تھی جس سے  
بفضلہ تعالیٰ سامعین کو بہت فائدہ ہوا۔ بعض احباب نے خیال ظاہر  
کیا کہ یہ باتیں ایک مختصر سے رسالے کی شکل میں آجائیں تو ہر شخص  
اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ چنانچہ اس مختصر سے رسالے میں نماز کا  
مسنون طریقہ اور اس کو آداب کے ساتھ ادا کرنے کی تزکیب  
بیان کرنی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لئے مفید بنائیں  
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

نماز کے مسائل پر بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں بحمد اللہ  
شائع ہو چکی ہیں، یہاں نماز کے تمام مسائل بیان کرنا مقصود نہیں  
ہے، بلکہ صرف نماز کے اركان کی ہیئت سنت کے مطابق بنانے کے  
لئے چند ضروری باتیں بیان کرنی ہیں، اور ان غلطیوں اور کوتاهیوں  
پر تنبیہ کرنی ہے جو آج کل بہت زیادہ رواج پائی ہیں۔

ان چند مختصر یاتوں پر عمل کرنے سے انشاء اللہ نماز کی کم از کم ظاہری صورت سنت کے مطابق ہو جائے گی، اور ایک مسلمان اپنے پروردگار کے حضور کم از کم یہ عرض داشت پیش کر سکے گا کہ

ترے محبوب کی یارب! شاہت لے کے آیا ہوں  
حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں  
وما تو فیقی الابالله علیہ تو کلت والیہ انیب

احقر

محمد تقی عثمانی عفی عنہ  
دارالعلوم کراچی

## نماز شروع کرنے سے پہلے

یہ بائیس یاد رکھئے اور ان پر عمل کا اطمینان کر لجئے :-

(۱) آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو نا ضروری ہے۔

(۲) آپ کو سیدھا کھڑے ہو ناچاہئے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہئے۔ گردن کو جھکا کر ٹھوڑی سینے سے لگالینا بھی مکروہ ہے، اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہو نا بھی درست نہیں۔ اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔

(۳) آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہے، اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہیں، (پاؤں کو دوائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے) دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہئیں۔



صحیح طریقہ



غلط طریقہ

(۴) دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہئے۔

(۵) اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی صفائی رہے، صفائی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑھیوں کے آخری سرے صفائی یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لے۔ اس طرح:



(۶) جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں اور نیچ میں کوئی خلا نہیں ہے۔ لیکن خلا کو پر کرنے

کے لئے اتنی تنگی بھی نہ کی جائے کہ اطمینان سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔

(۷) اگر اگلی صفائحہ بھر چکی ہو تو نئی صفائحہ میں سے شروع کی جائے، دامیں یا بامیں کنارے سے نہیں۔ پھر جو لوگ آمیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ صفائحہ دونوں طرف سے برابر ہے۔

(۸) پاجامے کو سخنے سے بچنے کا کانا ہر حالت میں ناجائز ہے، ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شاعت اور بڑھ جاتی ہے، لہذا اس کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ سخنے سے اونچا ہے۔

(۹) ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہوئی چاہیں، صرف ہاتھ کھلے رہیں، بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔

(۱۰) ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔

## نماز شروع کرتے وقت

(۱) دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔

(۲) ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیاریوں کا رخ قلے کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں، یا اس کے برابر آجائیں اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں، بعض لوگ ہتھیاریوں کا رخ قلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں۔

بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر بلکہ اشارہ سا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کان کی لوکو ہاتھوں سے کچڑ لیتے ہیں۔

یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں، ان کو چھوڑنا  
چاہئے۔

(۲) مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں، پھر  
دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں پہنچ کے گرد حلقة  
بنانے کے پڑ لیں اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس  
طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ کہنی کی طرف رہے۔

(۳) دونوں ہاتھوں کوناف سے ذرا سایچے رکھ کر مذکورہ بالاطریقے  
سے باندھ لیں۔

## کھڑے ہونے کی حالت میں

(۱) اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، یا امامت کر رہے ہوں تو پہلے  
سبحانک اللہم اخْ، پھر سورہ فاتحہ پھر کوئی اور سورت پڑھیں، اور  
اگر کسی امام کے پیچے ہوں تو صرف سبحانک اللہم اخْ پڑھ کر

خاموش ہو جائیں اور امام کی قراءت کو دھیان لگا کر سئیں، اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہوں تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کئے رکھیں۔

(۲) نماز میں قراءت کے لئے یہ ضروری ہے کہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر قراءت کی جائے بلکہ اس طرح قراءت کی جائے کہ خود پڑھنے والا اس کو سن سکے۔ بعض لوگ اس طرح قراءت کرتے ہیں کہ زبان اور ہونٹ حرکت نہیں کرتے یہ طریقہ درست نہیں، بعض لوگ قراءت کے بجائے دل ہی دل میں الفاظ کا تصور کر لیتے ہیں اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔

(۳) جب خود قراءت کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، پھر دوسروی آیت پڑھیں، کئی کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں۔ مثلاً الحمد لله رب العلمین پر سانس توڑ دیں، پھر الرحمن الرحیم پر، پھر ملک یوم

پر۔ اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد کی قراءت میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو گوئی حرج نہیں۔

(۴) بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں، جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر کھلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک باتھ استعمال کریں، اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے وقت اور لمبے کم۔

(۵) جسم کا سارا ازور ایک پاؤں پر دیکر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلنا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آجائے نماز کے آواب کے خلاف ہے۔ اس سے چھپر ہیز کریں۔ یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں، یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو۔

(۶) جملی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔

(۷) ڈکار آئے تو ہوا کو پسلے منہ میں جمع کر لیا جائے، پھر آہستہ سے بغیر آواز کے اسے خارج کیا جائے۔ زور سے ڈکار لینا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔

(۸) کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھرا دھریا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔

## رکوع میں

رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا خاص خیال

رکھیں :-

(۱) اپنے اوپر کے دھڑکو اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آجائیں نہ اس سے زیادہ جھکیں، نہ اس سے کم۔

(۲) رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی سینے سے ملنے لگے۔ اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے بلکہ

گردن اور کمر ایک سطح پر ہو جانی چاہئیں۔

(۳) رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، ان میں خم نہ ہونا چاہئے۔

(۴) دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں۔

(۵) رکوع کی حالت میں کلائیں اور بازو سیدھے تھے ہوئے رہنے چاہئیں، ان میں خم نہیں آنا چاہئے۔

(۶) کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جاسکے۔

(۷) رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہئیں۔

(۸) دونوں پاؤں پر زور بر ابر برہنا چاہئے، اور دونوں پاؤں کے مخنے ایک دو سرے کے بال مقابل رہنے چاہئیں۔

## رکوع سے کھڑے ہوتے وقت

(۱) رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔

(۲) اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہئے۔

(۳) بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بعد کھڑے ہونے کا صرف انتہاء کرتے ہیں، اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لئے چلتے ہیں، ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں، جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے، سجدے میں نہ جائیں۔

## سجدے میں جاتے وقت

سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھیں

کہ :-

(۱) سب سے پہلے گھننوں کو خم دیکر انہیں زمین کی طرف اس طرح لیجائیں کہ سینہ آگے کونہ جھکے، جب گھننے زمین پر نک جائیں، اس کے بعد سینے کو جھکائیں۔

(۲) جب تک گھننے زمین پر نہ مکیں، اس وقت تک اور پر کے دھڑکو جھکانے سے حتی الامکان پر ہیز کریں۔

آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواں بست عام ہو گئی ہے، اکثر لوگ شروع ہی سے سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ وہی ہے جو نمبر (۱) اور نمبر (۲) میں بیان کیا گیا، بغیر کسی عذر کے اس کونہ چھوڑنا چاہئے۔

(۳) گھننوں کے بعد پسلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔

## مسجدے میں

- (۱) سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں  
کہ دونوں انگلوٹھوں کے سرے کا نوں کی لوکے سامنے ہو جائیں۔
- (۲) سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہئیں، یعنی  
انگلیاں بالکل مٹی ہوں، اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔
- (۳) انگلیوں کا رخ تھہیں طرف ہونا چاہئے۔
- (۴) کہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہئیں، کہنیوں کو زمین پر نیکنا  
درست نہیں۔
- (۵) دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہے ہوتے ہونے چاہئیں،  
انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کرنہ رکھیں۔
- (۶) کہنیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائیں جس سے  
برا بر کے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔

(۷) رانیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہئیں، پیٹ اور رانیں الگ الگ رکھی جائیں۔

(۸) پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر بھی رہے، زمین سے نہ اٹھے۔

(۹) دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑھیاں اور ہوں، اور تمام انگلیاں اپنی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں، وہ جتنی موڑ سکیں، اتنی موڑنے کا اہتمام کریں، بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر شیکنا درست نہیں۔

(۱۰) اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں، بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحہ کے لئے بھی زمین پر نہیں ملکتی، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا، اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس سے اہتمام کے

ساتھ پرہیز کریں۔

(۱۱) سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں پیشانی ٹکتے ہی فوراً اٹھاینا منع ہے۔

## دونوں سجدوں کے درمیان

(۱) ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے دوز انو سیدھے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، ذرا اسرا اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔

(۲) بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں، اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مذکر قبلہ رخ ہو جائیں، بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑھیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ

طریقہ صحیح نہیں۔

(۲) بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہئیں، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتداء کنارے تک پہنچ جائیں۔

(۳) بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہوئی چاہئیں۔

(۴) اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کما جاسکے، اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں اللهم اغفرلی و ارحمنی و مسترفی و اجبرنی و اهدنی و ارزقنی پڑھا جاسکے تو بہتر ہے لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، انفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے۔

## دوسرے سجدہ اور اس سے اٹھنا

(۱) دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ

زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔

(۲) سجدے کی بیست وہی ہونی چاہئے جو پہلے سجدے میں بیان کی گئی۔

(۳) سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے انہائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ پھر کھٹتے۔

(۴) اٹھتے وقت زمین کا سارا انہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیکاری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سارا انہ بھی جائز ہے۔

(۵) اٹھنے کے بعد ہر کعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھیں۔

### قعدے میں

(۱) قعدے میں جیخنے کا طریقہ وہی ہو گا جو سجدوں کے نیچے میں جیخنے کا ذکر کیا گیا۔

(۱) الْحَيَاةِ پڑھتے وقت جب ”اَشْهَدُ اَنْ لَا“ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں، اور ”الاَللَّهُ“ پر گراویں۔

(۲) اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ نیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقة بنائیں، چھپلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں، اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہئے۔

(۳) ”الاَللَّهُ“ کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو بیشتر اشارے کے وقت بنائی تھیں، اس کو آخر تک برقرار رکھیں۔

### سلام پھیرتے وقت

(۱) دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آجائیں۔

- (۱) سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہوئی چاہئیں۔
- (۲) جب دائیں طرف گردن پھیر کر "السلام عليکم ورحمة الله" کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔

### دعا کا طریقہ

- (۱) دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آجائیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سافاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملاجئیں، اور نہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں۔
- (۲) دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندر وہی حصے کو چھرے کے سامنے رکھیں۔

تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس سے کم کھلارہ گیا تو نماز ہو جائے گی، مگر گناہ ہو گا۔

(۲) خواتین کے لئے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے سے افضل ہے، اور برآمدے میں پڑھنا حکم سے افضل ہے۔

(۳) عورتوں کو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک نہیں، بلکہ کندھوں تک اٹھانے چاہیں، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہی سے اٹھانے چاہیں، دوپٹے سے باہر نہ نکالے جائیں۔ (بشتی زیور)

(۴) عورتیں ہاتھ سینے پر اکٹی طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں۔ نہیں مردوں کی طرف ناف پر ہاتھ نہ باندھنے چاہیں۔

(۵) رکوع میں عورتوں کے لئے مردوں کی طرح کمر کو بالکل سیدھا کرنا ضروری نہیں، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم جھکنا چاہئے۔ (طحطاوی علی الموافقی ص ۱۳۱)

(۶) رکوع کی حالت میں مردوں کو انگلیاں لگھنے پر کھول کر رکھنی چاہیں، لیکن عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ انگلیاں ملا کر رکھیں، یعنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ (درختار)

(۷) عورتوں کو رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہ رکھنے

چاہیں بلکہ گھنٹوں کو آگے کی طرف ذرا ساختم دیکر کھڑا ہونا  
چاہئے۔ (درختار)

(۸) مردوں کو حکم یہ ہے کہ رکوع میں ان کے بازو پہلوؤں سے  
 جدا اور تنے ہوئے ہوں، لیکن عورتوں کو اس طرح کھڑا ہونا  
چاہئے کہ ان کے بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ (ایضا)

(۹) عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑا ہونا چاہئے، خاص طور پر  
دونوں ٹخنے تقریباً مل جانے چاہیں، پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ ہونا  
چاہئے۔ (بشتی زیور)

(۱۰) سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لئے یہ طریقہ بیان کیا گیا  
ہے کہ جب تک گھٹنے زمین پر نہ تکیں، اسی وقت تک وہ سینہ نہ  
جھکائیں، لیکن عورتوں کے لئے یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ شروع ہی  
سینہ جھکا کر سجدے میں جاسکتی ہیں۔

(۱۱) عورتوں کو سجدہ اس طرح کرنا چاہئے کہ ان کا پیٹ رانوں  
سے بالکل مل جائے، اور بازو میں بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے  
ہوں۔ نیز عورت پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں، انہیں  
طرف نکال کر بچھادے۔

(۱۲) مردوں کے لئے سجدے میں کہیاں زمین پر رکھنا منع ہے،

لیکن عورتوں کو کمپیوں سمیت پوری بانیں زمین پر رکھ دینی  
چاہئیں۔ (در مختار)

(۱۳) سجدوں کے درمیان اور التحیات پڑھنے کے لئے جب بیٹھنا ہو تو بائیں کو لھے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال دیں، اور دائیں پنڈلی پر رکھیں۔ (طباطباوی)

(۱۴) مردوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں انگلیاں کھول کر رکھنے کا اہتمام کریں اور سجدے میں بند رکھنے کا، اور نماز کے باقی افعال میں انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ بند کرنے کا اہتمام کریں، نہ کھونے کا۔ لیکن عورتوں کے لئے ہر حالت میں حکم یہ ہے کہ وہ انگلیوں کو بند رکھیں، یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑیں، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، دو سجدوں کے درمیان بھی، اور قعدوں میں بھی۔

(۱۵) عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ان کے لئے اکیلی نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ البتہ اگر گھر کے محروم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانے میں کچھ حرج نہیں۔ لیکن ایسے میں مردوں کے بالکل پچھے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ برابر میں ہرگز کھڑی نہ ہوں۔

## مسجد کے چند ضروری آداب

(۱) مسجد میں داخل ہونے وقت یہ دعا پڑھیں :-

بسم الله والصلوة على رسول الله  
صلى الله عليه وسلم ، اللهم افتح  
لی ابواب رحمتک

(۲) مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ تہیت کر لیں کہ جتنی دیر مسجد  
میں رہوں گا، اعتکاف میں رہوں گا، اس طرح انشاء اللہ اعتکاف  
کا ثواب بھی ملے گا۔

(۳) داخل ہونے کے بعد اگلی صفت میں بیٹھنا افضل ہے، لیکن  
اگر جگہ بھر گئی ہو تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں "لوگوں کی گردیں  
پھلانگ کر آگے بڑھنا جائز نہیں۔

(۴) جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ذکر یا تلاوت میں مشغول ہوں  
ان کو سلام نہیں کرنا چاہئے، البتہ اگر ان میں سے کوئی از خود

متوجہ ہو، اور ذکر وغیرہ میں مشغول نہ ہو تو اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۵) مسجد میں سنتیں یا نقلیں پڑھنی ہوں تو اس کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا حتمل نہ ہو۔ بعض لوگ پچھلی صفوں میں نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کی وجہ سے دور تک لوگوں کے لئے گزرنا شکر ہو جاتا ہے، اور انہیں لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہے، ایسا کرنا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو اس گزرنے کا گناہ بھی نماز پڑھنے والے پر ہو گا۔

(۶) مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نماز میں کچھ دیر ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو ریکعتیں تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس کا بہت ثواب ہے۔

اگر وقت نہ ہو تو سنتوں ہی میں تحیۃ المسجد کی نیت

کر لیں، اور اگر سنتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، اور جماعت کھڑی ہے تو فرض میں بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے۔

(۷) جب تک مسجد میں بیٹھیں ذکر کرتے رہیں خاص طور پر اس کلے کا ورد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ و الحمد للہ ولا اللہ الا اللہ و اللہ اکبر

(۸) مسجد میں بیٹھنے کے دوران بلا ضرورت باشیں نہ کریں، نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے نماز پڑھنے والوں یا ذکر کرنے والوں کی عبادات میں خلل آئے۔

(۹) نماز کھڑی ہو تو اگلی صفوں کو پہلے پر کریں، اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو تجھصیل صفوں میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔

(۱۰) جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے جب امام منبر پر آجائے تو اس وقت سے نماز ختم ہونے تک بولنا یا نماز پڑھنا یا کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے، اس دوران اگر کوئی شخص بولنے لگے تو اسے چپ رہنے کی تاکید کرنا بھی جائز نہیں۔

(۱۱) خطبہ کے دوران اس طرح بیٹھنا چاہئے جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں، بعض لوگ پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں، اور دوسرے خطبے میں ہاتھ زانوں پر رکھ لیتے ہیں، یہ طریقہ بے اصل ہے، دونوں خطبوں میں ہاتھ زانوں پر رکھ کر بیٹھنا چاہئے۔

(۱۲) ہر ایسے کام سے پرہیز کریں جس سے مسجد میں گندگی ہو، بدبو پھیلے یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔

(۱۳) اسی دوسرے شخص کو کوئی غلط کام کرتے دیکھیں تو چکے سے نرمی کے ساتھ سمجھادیں، اسکو پرہیز کرنے کا نہ ڈانت ڈپٹ یا لڑائی جھگڑے سے مکمل پرہیز کریں۔

(۱۴) مسجد سے باہر نکلتے وقت یا پاؤں پہلے باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں :

”بسم الله و الصلاة والسلام على رسول

الله، اللهم انى اسالك من فضلك“